



جمهوری اسلامی ایران کے بنیادی آئین میں ریبری سے متعلق اصول :

- اصل 2: جمهوری اسلامی
- اصل 5: عادل اور متقی ولایت فقیہ
- اصل 57: جمهوری اسلامی میں حاکم قوا
- اصل 60: قوه مجریہ
- اصل 91: گارڈین کونسل (شورای نگہبان)
- اصل 107: خبرگان کونسل کے ذریعہ ریبر کا تقرر
- اصل 109: ریبر کے شرائط اور صفات
- اصل 110: ریبر کے اختیارات اور وظائف
- اصل 111: ریبر کا انتقال یا استعفی یا برطرفی اور معزولی
- اصل 112: تشخیص مصلحت نظام کونسل
- اصل 113: صدر جمهوریہ
- اصل 131: صدر کا انتقال یا استعفی
- اصل 142: ریبر، صدر جمهوریہ اور دیگر حکام کے اموال
- اصل 157: عدليہ کا سربراہ
- اصل 175: جمهوری اسلامی ایران کا ٹی وی اور ریڈیو
- اصل 177: بنیادی آئین میں تجدید نظر

اصل 2

جمهوری اسلامی، ایمان کی بنیاد پر ایک ایسا نظام ہے جو:

- 1- خداوند متعال کی وحدانیت (لا الہ الا الله)، اس کی حاکمیت اور اسکی طرف سے اسکی تشریع اور اسکے امر کے سامنے تسلیم ہو جانے پر مبنی ہے۔
- 2- قوانین کے بیان میں وحی الہی اور اسکا بنیادی نقش
- 3- خداوند متعال کی طرف انسان کے سیر تکامل میں قیامت اور اسکا تعمیری نقش
- 4- خلق اور تشریع میں خداوند متعال کی عدالت۔
- 5- امامت اور ریبری کا استمرار اور انقلاب اسلام کے تداوم میں اسکا بنیادی کردار
- 6- خدا کے سامنے انسان کی اعلیٰ اقدار و کرامت اور مسؤولیت اور ذمہ داری کے ہمراہ اسکی آزادی جو مندرجہ ذیل طریقے پر مشتمل ہے:

الف: کتاب اور سنت موصومین (ع) کی روشنی میں جامع الشرائع فقیہاء کے اجتہاد کا استمرار  
 ب: انسان کے ترقی پر مبنی تجربیوں اور علوم و فنون سے استفادہ اور انکو آگے بڑھانے کی تلاش و کوشش  
 ج: بر قسم کی جارحیت اور ظلم و ستم روا رکھنے یا تحمل کرنے کی نفی  
 عدل و انصاف کے ذریعہ ، سیاسی ، اقتصادی ، سماجی اور ثقافتی استقلال اور قومی یکجہتی حاصل ہوتی ہے

اصل 5



حضرت ولی عصر (عج) کی غیبت کے دور میں، جمہوری اسلامی ایران میں ولایت امر اور امت کی امامت و زعامت، عادل و باتقوی، زمانہ شناس، شجاع، مدیر و مدبر فقیہ کے عہدے پریے اور اصل 107 کے مطابق وہ اس منصب پر فائز ہوتا ہے

اصل 57

جمهوری اسلامی ایران میں حاکم قوا مندرجہ ذیل ہیں :

قوہ مقننه، قوہ مجریہ اور قوہ عدالیہ ولایت مطلقہ امر اور امت کے ریبڑ کے زیر نظر ہیں جو ان قوانین کے آئندہ اصولوں کے مطابق وظائف انجام دیں گے - یہ تینوں قوا ایک دوسرے سے مستقل ہیں

اصل 60

قوہ مجریہ کی اجرائی ذمہ داری صدر جمہوریہ اور وزراء کے عہدے پر ہے اور وہ امور مستثنی ہیں جو براہ راست ریبڑ سے متعلق ہیں

اصل 91

بنیادی آئین اور اسلامی احکام کی پاسداری اور پارلیمنٹ " مجلس شورای اسلامی " میں منظور شدہ قوانین کی ان کے ساتھ مطابقت پر نظر رکھنے کیلئے شورای نگہبان ( گارڈین کونسل ) مندرجہ ذیل طریقے سے تشکیل پاتی ہے -

- 1: چہ عادل فقہاء جو موجودہ زمانے اور مسائل سے آگاہ و آشنا ہوں انکا انتخاب ریبڑ معظم کرتے ہیں
- 2: چہ مسلمان مابر و کلاء جو حقوق کے مختلف شعبوں کے مابر ہوں انکو عدالیہ کے سربراہ انتخاب کر کے پارلیمنٹ ( مجلس شورای اسلامی ) کو معرفی کرتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ انہیں ووٹ کے ذریعہ منتخب کرتی ہے۔

اصل 107

مرجع عالیقدر و ریبڑ کبیر انقلاب اسلامی اور جمہوری اسلامی ایران کے بنیانگذار حضرت امام خمینی (رح) جنکو عوام کی اکثریت نے ریبڑی اور مرجعیت کے عنوان سے پہچانا اور قبول کیا انکے بعد ریبڑ کا انتخاب خبرگان کونسل کے ہاتھ میں ہے جو عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، خبرگان کونسل کے اعضاء اصل 15 اور 109 میں مذکور شرائط کے حامل تمام فقہاء کے بارے میں تحقیق اور مشورہ کرتے ہیں اگر ان میں سے وہ کسی ایک کو احکام اور فقہی موضوعات میں اعلم یا سیاسی و سماجی مسائل یا عمومی مقبولیت یا اصل 109 میں مذکور صفات میں سے کسی ایک میں خاص اہمیت کا حامل قرار دیں تو اسے ریبڑ کے طور پر انتخاب کریں گے ورنہ پھر ان میں سے کسی ایک کو ریبڑ کے عنوان سے انتخاب اور معرفی کریں گے خبرگان کونسل کے ذریعہ منتخب ہونے والا ریبڑ ولایت امر اس سے متعلق تمام ذمہ داریوں کا عہدیدار ہوگا۔

اصل 109

ریبڑ کے شرائط و صفات:

- 1: فقہ کے مختلف ابواب میں افتاء کی لازم عملی صلاحیت کا ہونا
- 2: امت اسلام کی ریبڑی کیلئے عدالت اور تقوی کا پایا جانا



3: ریبری کا منصب سنبھالنے کیلئے صحیح سیاسی و سماجی فکر اور کافی تدبیر و شجاعت و مدیریت اور قدرت کا حامل ہونا

اگر مذکورہ شرائط متعدد افراد میں پائے جاتے ہوں تو وہ شخص مقدم ہوگا جو سیاسی اور فقیہی نقطہ نظر سے زیادہ قوی ہوگا

اصل 110

ریبر کے وظائف اور اختیارات:

1: مجمع تشخیص مصلحت نظام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جمہوری اسلامی ایران کے نظام کی کلی اور جامع سیاست کو تعیین کرنا

2: نظام کی کلی اور جامع سیاست کے حسن اجراء پر نگرانی رکھنا

3: ریفرنڈم کا حکم صادر کرنا

4: مسلح افواج کی سربراہی

5: صلح و جنگ کا اعلان اور فوجی آمادگی

6: منصوب و معزول اور استعفی قبول کرنا

الف : شورای نگہبان (گارڈین کونسل) کے فقهاء

ب : عدليہ کے سربراہ

ج : ٹی وی اور ریڈیو کے ڈائیریکٹر

د : مسلح افواج کی مشترکہ کمان کے سربراہ

ه : سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ

و : فوج اور پولیس کے اعلیٰ کمانڈروں

7: تینوں قوا کے درمیان روابط تنظیم کرنا اور انکے اختلافات کو حل کرنا

8: مجمع تشخیص مصلحت نظام کے ذریعہ معمولی طریقوں سے حل نہ ہونے والی مشکلات کو حل کرنا

9: عوام کی طرف سے صدر کے انتخاب کے بعد صدارت کے حکم پر دستخط ، قانون میں بیان شدہ شرائط کے مطابق صدارت کے امیدواروں کی صلاحیت کا انتخابات سے قبل شورای نگہبان کی طرف سے مورد تائید قرار پانا اور پہلے مرحلے میں ریبری کی تائید حاصل کرنا

10: ملک کے مصالح کو مدنظر رکھتے ہوئے قانونی وظائف سے صدر کی کوتاہی اور تخطی کے خلاف ملک کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے بعد اصل 89 کی روشنی میں صدر کی عدم کفایت پر پارلیمنٹ کی طرف سے عدم اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد صدر کو معزول کرنا

11- عدليہ کے سربراہ کی تجویز اور پیشہ ہاد کے بعد اسلامی قوانین کی روشنی میں سزا یافتہ افراد کی سزاوں کو معاف یا ان میں تخفیف کرنا  
ریبر اپنے اختیارات کسی دوسرے شخص کو تفویض کرسکتے ہیں

اصل 111

اگرریبر اپنے قانونی وظائف کو انجام دینے سے عاجز اور ناتوان رہ جائے یا اصل پانچ اور ایکسو نو میں مذکور شرائط اس میں نہ پائے جاتے ہوں یا معلوم ہو جائے کہ اس میں بعض شرائط ابتدائی سے موجود نہیں تھے تو وہ اپنے منصب سے الگ ہو جائے گا

اور اس امر کی تحقیق و تشخیص خبرگان کونسل کے عہدے پر ہے جس کا ذکر اصل 108 میں گذر چکا ہے ریبر کے



انتقال کرنے یا الگ ہونے یا اس کو بطرف کئے جانے کی صورت میں، خبرگان کونسل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جلد از جلد نئے ریبر کی معرفی اور تعیین کا اقدام کرے اور ॥ ریبر کے مقرر اور معین ہونے تک وقتی طوراً یک کونسل تشکیل دے گی جو ریبر کے تمام فرائض کو عملی طور سرانجام دے گی یہ کونسل صدر اور عدیہ کے سربراہ سمیت گارڈین کونسل کے فقهاء میں سے کسی ایک فقیہ پر مشتمل ہوگی گارڈین کونسل کے فقیہ کا انتخاب تشخیص مصلحت نظام کونسل کرے گی اور اگر اس مدت میں ان میں سے کوئی ایک فرد کسی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرسکے تو مجمع اسکی جگہ مذکورہ کونسل میں فقهاء کی اکٹربیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے فرد کو منصوب کریگا

یہ کونسل بند 1 و 3 و 5 و 10 اور اصل 110 کے چھٹے بندکی شق (د) و (ب) اور (و) کے متعلق تشخیص مصلحت نظام کونسل کے تین چہارم (4/3) اعضاء کی منظوری کے بعد اقدام کریگی اگر ریبر بیماری یا کسی دوسرے حادثے کی بنابر اپنے وظائف سرانجام دینے میں قادر رہے تو اس مدت میں مذکورہ کونسل اس اصل میں مذکور وظائف کی عہدیدار ہوگی

اصل 112

تشخیص مصلحت نظام کونسل ایسے موارد میں تشخیص مصلحت کیلئے اجلاس تشکیل دے گی جب پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے قانون کو گارڈین کونسل بنیادی آئین یا شرع کے خلاف قرار دیدے اور پارلیمنٹ نظام کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گارڈین کونسل کے نقطہ نظر کو پورا نہ کرے یا ریبر نے مشورے کے لئے جو امور انہیں تفویض کئے ہیں اور اس کے ساتھ ان تمام موارد میں اجلاس تشکیل دے گی جو قانون میں ذکر ہوئے ہیں

اس کونسل کے اصلی اور غیر اصلی ارکان کو ریبر منتخب کریں گے اس کونسل سے متعلق قوانین کو خود کونسل کے ارکان آمادہ اور منظور کرنے کے بعد ریبر معظم سے انکی تائید حاصل کریں گے

اصل 113

ریبر کے مقام و منصب کے بعد ملک کا سب سے بڑا سرکاری منصب صدر کا ہے اور ان امور کے علاوہ جو براہ راست ریبر سے متعلق بین صدر بنیادی آئین کے اجراء کی مسئولیت اور قوہ مجریہ کی صدارت کا عہدیدار ہوگا

اصل 131

صدر کے انتقال، معزول، مستعفی، غائب یا دو مہینے سے زیادہ بیمار رہنے کی صورت میں یا صدارت کی مدت ختم ہونے اور بعض رکاوٹوں کی وجہ سے نئے صدر کے منتخب نہ ہونے یا اس قسم کے دوسرے موارد میں ریبر کی موافقت سے نائب صدر، صدر کے تمام اختیارات و ذمہ داریوں کا عہدیدار ہوگا اور پارلیمنٹ کے اسپیکر و عدیہ کے سربراہ اور نائب صدر پر مشتمل ایک کونسل تشکیل پائے گی جو زیادہ سے زیادہ پچاس دنوں کے اندر نئے صدر کو انتخاب کرنے کی پابند ہوگی نائب صدر کے انتقال یا دوسرے امور جو اس کے وظائف انجام دینے میں رکاوٹ ہیں یا یہ کہ صدر کا کوئی نائب صدر بی نہ ہو تو اس صورت میں ریبر کسی دوسرے شخص کو اسکی جگہ منصوب کریں گے

اصل 142



ریبر، صدر، صدر کے نواب و معاونین، وزراء اور انکی بمسروں و فرزندوں کے مسئولیت سے قبل و بعد کے اموال کی جانچ عدليہ کے سربراہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ غیر قانونی طور پر ان کے اموال میں اضافہ تو نہیں ہوا ہے

اصل 157

تمام قضائی، اداری اور اجرائی امور میں عدليہ کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ریبر معظم ایک مجتہد، عادل ، اور قضاوت کے امور میں مدیر و مدبراور آگاہ فرد کو 5 سال کی مدت کیلئے عدليہ کے سربراہ کے عنوان سے مقرر کریں گے جو عدليہ کا سب سے بڑا اور عالی منصب ہوگا

اصل 175

جمهوری اسلامی ایران کے ریڈیو اور ٹی وی کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ آزادی اظہار اور اسلامی قوانین اور ملکی مصلحتوں کے پیش نظر صحیح افکار کے نشر کرنے کی راہیں ہموار کرے ریڈیو اور ٹی وی کے ڈائیریکٹر کا تقرر یا اسکی معزولی کا اختیار ریبر کے ہاتھ میں ہے ریڈیو اور ٹی وی کے امور پر ایک ایسی کونسل نگرانی رکھے گی جسمیں صدر ، عدليہ کے سربراہ اور پارلیمنٹ کی طرف سے دو دو نمائندے شامل ہونگے اس ادارے اور اس نگرانی کے تمام ضوابط قانون میں معین ہیں

اصل 177

جمهوری اسلامی ایران کے بنیادی آئین میں ضروری موقع پر تجدید نظر مندرجہ ذیل صورتوں میں انجام پذیر ہوگی ریبر ، مجمع تشخیص مصلحت نظام کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد صدر کو ایک حکم کے ذریعہ بنیادی آئین میں اصلاح و تتمیم و تکمیل کے موارد کو بنیادی آئین میں تجدید نظر کرنے والی کونسل میں پیش کرنے کی تجویز دیں گے جو مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل ہوگی

- 1- گارڈین کونسل کے ارکان
- 2- تینوں قوا کے سربراہ
- 3- تشخیص مصلحت نظام کے اصلی ارکان
- 4- خبرگان ریبری کونسل کے ارکان
- 5- ریبر کے منتخب کردہ دس افراد
- 6- ہیئت وزراء میں سے تین افراد
- 7- عدليہ کے تین افراد
- 8- پارلیمنٹ کے دس نمائندے
- 9- یونیورسٹیوں کے تین افراد

اس کونسل میں منظور ہونے والے دستورات کو ریبر کی تائید اور دستخط کے بعد ووٹنگ کے لئے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا تا کہ عوامی ریفرنڈم میں اسے واضح اکثریت حاصل ہوجائے